



ڈومیسٹک سیزن 2020-21 میں کھلاڑیوں کے کنٹریکٹ سے متعلق پی سی بی کا بیان

لاہور، 13 ستمبر 2020:

پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ ڈومیسٹک سیزن 2020-21 کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کھلاڑیوں کو ان کے ڈیپارٹمنٹ سے استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ سے شروع ہونے والے ڈومیسٹک سیزن 2020-21 کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ ڈومیسٹک کنٹریکٹ لینے کے خواہشمند کھلاڑیوں سے نہ تو استعفیٰ دینے کا کہہ رہا ہے اور نہ ہی انہیں ڈیپارٹمنٹس سے اپنا موجودہ معاہدے منسوخ کرنے کا کہہ رہا ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ تو ملازمت اور کنٹریکٹ رکھنے والے تمام کرکٹرز سے یہ کہہ رہا ہے کہ پالیسی اور ایس او پیز کے مطابق انہیں ڈومیسٹک سیزن برائے 2020-21 کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے این او سی درکار ہوگا۔ ان ڈیپارٹمنٹس کی جانب سے NOC کا اجراء معمول کی ایک کاروائی ہوگی۔ یہ نہ صرف پی سی بی اور ڈیپارٹمنٹ دونوں کی ضرورت بلکہ یہ عمل پہلے سے جاری بھی ہے۔

پی سی بی اپنے ایک بیان میں کہہ چکا ہے کہ جب ایک کھلاڑی اپنے ڈیپارٹمنٹ کا جاری کردہ متعلقہ این او سی جمع کرادے گا تو پی سی بی اس کھلاڑیوں کو معاہدے کے مطابق ادائیگی کر دے گا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی وضاحت کرچکا ہے کہ ایک ملازمت رکھنے والا کرکٹر بھی ڈومیسٹک سیزن برائے 2020-21 کے کنٹریکٹ کا اہل ہے اور اگر اس کھلاڑیوں کا ڈیپارٹمنٹ اسے سیزن بھر بھی ادائیگی کرتا رہے تو اسے کوئی

اعتراض نہیں ہوگا۔

ملازمت رکھنے والا کرکٹر کو اس شرط پر ڈومیسٹک سیزن 2020-21 کے کنٹریکٹ کی پیشکش کی جاسکتی ہے کہ وہ کھلاڑی اپنے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ این او سی کو قواعد و ضوابط کے مطابق پی سی بی کو پیش کرے۔

اب کھلاڑی کو اس کا ڈیپارٹمنٹ ادائیگی کرتا ہے یا نہیں، یہ ان دونوں کے آپس کا ایک معاملہ ہے۔

پی سی بی مزید وضاحت کرچکا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2020-21 کے لیے کھلاڑیوں کو 2 قسم کے معاہدے پیش کیے جائیں گے۔

ہر کرکٹ ایسوسی ایشن میں زیادہ سے زیادہ 32 کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک سینٹرل کنٹریکٹ پیش کیا جائے گا جبکہ باقی کھلاڑیوں کو سیزنل کنٹریکٹ پیش کیا جائے گا۔

ڈومیسٹک کنٹریکٹ کے تحت ایک کھلاڑی ڈومیسٹک سینٹرل کنٹریکٹ کی ذمہ داریوں کا پابند ہوگا اور اسے میچ فیس، ڈیلی الاؤنس اور دیگر متعلقہ مراعات سمیت ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا۔

سیزنل کنٹریکٹ کے تحت ایک کھلاڑی ڈومیسٹک سینٹرل کنٹریکٹ کے تحت تجویز کردہ ذمہ داریوں کا پابند ہوگا لیکن اسے ماہانہ وظیفہ نہیں ملے گا۔ تاہم ایسے کھلاڑی کو میچ فیس، ڈیلی الاؤنس اور دیگر متعلقہ مراعات ضرور ملیں گی۔

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS



Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4